

JUZ 13 Part 2

PRACTICE WORDS SURAH RA'D 19-29

وہ جوڑے رکھتے ہیں	يَصِلُ + وَا	يَصِلُونَ
وہ دور کرتے ہیں	يَذْرُءُ + وَا	يَذْرُءُونَ
خوشحالی	طُوبَى	طُوبَى

PRACTICE WORDS SURAH R'AD 30-43

چل پڑتے	سِيرَتٌ	سِيرَتٌ
سخت مصیبت / بلا	قَارِعَةٌ	قَارِعَةٌ
نازل ہوگی	تَخَلُّ	تَخَلُّ
پھر مہلت دی میں نے	فَ + أَمَلِي + ث	فَأَمَلَيْتُ
نام لو ان کے	سَمُّ + وَا + هُمْ	سَمُّوهُمْ
نہایت سخت ہے	أَشَقُّ	أَشَقُّ
کوئی بچانے والا	وَاقٍ	وَاقٍ
سائے اس کے	ظِلُّ + هَا	ظِلُّهَا
مٹا دیتا ہے	يَمْحُو	يَمْحُو
ہم گھٹاتے ہیں اسکو	نَنْقُصُ + هَا	نَنْقُصُهَا
کوئی ہٹانے والا	مُعَقِّبٌ	مُعَقِّبٌ

PRACTICE WORDS SURAH IBRAHIM 1-17

وہ پسند کرتے ہیں / وہ ترجیح دیتے	يَسْتَحِبُّ + وَا	يَسْتَحِبُّونَ
پھر لوٹائے / دے دیے انہوں نے	فَ + رَدُّ + وَا	فَرَدُّوا
مومنہوں ان کے	أَفْوََاهِ + هُمْ	أَفْوََاهِهِمْ

یُوَخِّرُكُمْ	یُوَخِّرُكُمْ	وہ مہلت دے تم کو / موخر کر دے
يَمِّنُ	يَمِّنُ	وہ احسان کرتا ہے
لَنُسَكِّنَنَّكُمْ	لَنَسُكِّنَنَّكُمْ	البتہ ہم آباد کر دیں گے ضرور تمہیں
وَاسْتَفْتَحُوا	وَاسْتَفْتَحُوا	اور فیصلہ چاہا انہوں نے
حَابٍ	حَابٍ	برباد / نامراد ہوا
عَبِيدٍ	عَبِيدٍ	ضدی
وَيُسْقَى	وَيُسْقَى	اور اُسے پلایا جائے گا
صَدِيدٍ	صَدِيدٍ	پیپ کا
يَتَجَرَّعُهُ	يَتَجَرَّعُهُ	گھونٹ گھونٹ پیے گا جسے
وَرَائِهِ	وَرَائِهِ	پچھے اُس کے
يُسَبِّغُهُ	يُسَبِّغُهُ	گلے سے اتار سکے گا اسے
غَلِيظًا	غَلِيظًا	سخت

PRACTICE WORDS SURAH IBRAHIM 18-34

كِرْمَادٍ	كِرْمَادٍ	طرح راکھ کی
اشْتَدَّتْ	اشْتَدَّتْ	سخت ہو گئی
أَجْرِعْنَا	أَجْرِعْنَا	گھبرائیں / چیخیں چلائیں ہم
عَاصِفٍ	عَاصِفٍ	تیز آندھی
بَرْزُوا	بَرْزُوا	سامنے ہو گئے / کھڑے ہوں گے
مُعْتُونٍ	مُعْتُونٍ	بچانے والے ہو
تَلُومُونِي	تَلُومُونِي	تم ملامت کرو مجھ پر
بِمُصْرِحِكُمْ	بِمُصْرِحِكُمْ	فریاد رس ہوں میں تمہارا

فریادرس ہوں میں تمہارا	بِ+مُصْرِخٍ+كُمْ	مُصْرِخِكُمْ
جز جس کی	أَصْلُ+هَا	أَصْلُهَا
شاخ اس کی	فَرْعُ+هَا	فَرْعُهَا
اکھاڑ لیا جائے اسے	اجْتُنَّتْ	اجْتُنَّتْ
اور لا اتارا	وَأَحْلُوا	وَأَحْلُوا
تباہی کے گھر	الْ+بَوَارِ	الْبَوَارِ
لوٹنا/ انجام تمہارا	مَصِيرٌ+كُمْ	مَصِيرِكُمْ
لگا تار چلنے والے ہیں	ذَاتِيْبَيْنِ	ذَاتِيْبَيْنِ
مانگی تم نے اُس سے	سَأَلْتُ+وَهُ	سَأَلْتُوَهُ
تم شمار کر سکو انہیں	تُحْصِ+وَهَا	تُحْصِوَهَا

PRACTICE WORDS SURAH IBRAHIM 35-52

بچائے رکھ مجھے	اجْنُبْ+نِي	اجْنُبْنِي
نافرمانی کی میری	عَصَا+نِي	عَصَانِي
بسایا میں نے	أَسْكَنْتُ+ث	أَسْكَنْتُ
پھٹی رہ جائیں گی	تَشَخَّصُ	تَشَخَّصُ
دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے	مُهْطِعِينَ	مُهْطِعِينَ
اٹھائے ہوئے	مُقْنِعِي	مُقْنِعِي
سراپنے	رُءُوسِ+هُمْ	رُءُوسِهِمْ
لوٹ سکیں گی	يَرْتَدُّ	يَرْتَدُّ
نگاہیں ان کی	طَرَفُ+هُمْ	طَرَفُهُمْ
ہم قبول کر لیں	نُجِبْ	نُجِبْ
کہ ٹل جائیں	لِ+تَنْزُولِ	لِتَنْزُولِ

نکل کھڑے ہوں گے	بَرَزُوا	بَرَزُوا
جکڑے ہوئے	مُقَرَّبِينَ	مُقَرَّبِينَ
زنجیریں	الْأَصْفَادِ	الْأَصْفَادِ
کرتے / لباس ان کے	سَرَابِيلُهُمْ	سَرَابِيلُهُمْ
گندھک کے	فَطْرَانِ	فَطْرَانِ
لپٹی ہوگی	تَغْشَى	تَغْشَى